



## کیا آپ

### معاونت کے مستحق ہیں؟

اگر آپ پاکستانی شہری ہیں اور ERRIN میں شریک کسی ملک (فہرست پشت پر دیکھیں\*) سے واپس آنا چاہتے ہیں یا آپ کی واپسی لازمی ہے، تو آپ اس پروگرام سے فائدہ اٹھانے کے حق دار ہو سکتے ہیں۔

واپس لوٹنے والے افراد رضاکارانہ اور غیر رضاکارانہ دونوں ہر عمر اور ہر قسم کے ہو سکتے ہیں، جن میں شامل ہیں:

- پناہ گزین افراد
- انکار شدہ پناہ گزین افراد
- قانونی اور غیر قانونی تارکین وطن
- تنہا نابالغان
- دیگر غیر محفوظ افراد

اس استحقاق کا فیصلہ شریک ملک کے مجاز حکام کرتے ہیں۔ دوبارہ بحالی میں معاونت صرف تب فراہم کی جائے گی جب ان حکام نے مثبت تصدیق کی ہو۔

## میں

### درخواست کیسے دوں؟

آپ ERRIN میں شریک کسی بھی ملک میں ERRIN کے رابطہ فرد کے ذریعے درخواست دے سکتے ہیں۔ آپ اپنے سوشل ورکر یا کاؤنسلر سے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

آپ کی دوبارہ بحالی کی خدمات صرف تب شروع ہوں گی جب ERRIN کا شراکت دار ملک اس کی تصدیق کر دے گا۔

\*برائے کرم ذہن میں رکھیں کہ فی الحال نیٹ ورک میں شامل تمام ممالک پاکستان میں ERRIN کی مہیا کردہ دوبارہ بحالی خدمات استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے۔ تازہ ترین معلومات کے لئے اپنے کاؤنسلر سے رابطہ کریں۔

## کیا

### معاونت فراہم کی جا سکتی ہے؟

ERRIN پروگرام کے تحت واپس آنے والے فرد کی حیثیت سے آپ WELDO کی مختلف دوبارہ بحالی کی خدمات کے حق دار ہو سکتے ہیں تاکہ اپنے وطن واپس آنے کے بعد اپنی زندگی دوبارہ شروع کر سکیں۔

یہ خدمات اشیاء کی شکل ہوں گی (جب تک کہ اس سے کچھ مختلف نہ بتایا گیا ہو) اور ان کا زیادہ تر انحصار اس پر ہوگا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں، آپ کا پروفائل کیا ہے اور آیا آپ کی کوئی خاص ضروریات تو نہیں ہیں۔

## طریق کار

### جس پر عمل کرنا ہے

## روانگی سے قبل

جب ERRIN کے شریک ملک کے حکام آپ کی درخواست منظور کر لیں گے تو آپ ضروری انتظامات میں مدد کے لئے WELDO سے معلومات طلب کر سکتے ہیں۔

## جب آپ پہنچ جائیں

پاکستان پہنچنے کے بعد WELDO آپ کو بنیادی معاونت مہیا کر سکتا ہے۔

ایئرپورٹ سے سواری کی فراہمی یا پہنچنے کے مقام پر استقبال

ملک کے اندر سفری سہولیات

عارضی رہائش

ہنگامی طبی امداد کے لئے حوالہ جات

دیگر بنیادی ضروریات

## دوبارہ بحالی کی خدمات

WELDO آپ کے ساتھ مل کر دوبارہ بحالی کا کام کرے گی جو آپ کی صورتحال اور ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے دستیاب امدادی رقم تک محدود ہوگی۔ مندرجہ ذیل خدمات شامل ہو سکتی ہیں:

سماجی، قانونی اور طبی معاونت

طویل المیعاد رہائشی معاونت

سکول اور زبان کی تربیت

ملازمت حاصل کرنے میں معاونت

تکنیکی اور پیشہ ورانہ تربیت

کاروبار شروع کرنے میں معاونت

زیادہ غیر محفوظ گروپوں کی مخصوص ضروریات کے مطابق خاص معاونت

خاندان والوں کی تلاش میں معاونت

تنہا نابالغ افراد (UAMS) کے لئے معاونت

تشہیر و اشاعت

## کچھ ہمارے بارے میں

WELDO بغیر منافع کام کرنے والی تنظیم ہے اور پاکستان میں 2003 سے سرگرم عمل ہے۔ WELDO پاکستان میں ERRIN پروگرام کے تحت خدمات فراہم کرتی ہے۔

اب تک WELDO نے 900 سے زائد قومی اور بین الاقوامی شرکاء کے ساتھ وسیع پیمانے کے پروجیکٹس پر کام کیا ہے۔ WELDO نے 2010 میں واپسی اور دوبارہ بحالی کے پروجیکٹس پر کام کرنا شروع کیا تھا۔

اس وقت سے اب تک WELDO نے 7,000 سے زیادہ ایسے افراد کو واپسی اور دوبارہ بحالی خدمات فراہم کی ہیں جو یا تو اپنی مرضی سے واپس آئے ہیں یا زبردستی نکالے گئے ہیں۔